

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر ۲۰۲۳ء



**WHEN THE WHEEL MOVES
THE NATION MOVES**



این بی پی
نیشنل بینک آف پاکستان

اعتماد Aitimaad

ISLAMIC BANKING اسلامی بینکنگ



بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	تفصیل	سیریل نمبر
2-3	ترسیلات زر	1.0
3-4	سیف ڈپازٹ لاکرزمیں اشیاء کی تحویل	2.0
4-6	ترسیل زر کی متبادل سہولیات (ADC Products)	3.0
6-9	رقم ڈپازٹ کرانے کے لئے اکاؤنٹس کی اقسام	4.0
9-11	صارفین کو سرمائے کی فراہمی کی سہولیات	5.0
11-13	متفرق چارجز / اخراجات	6.0
13	مستقل ہدایات کی فیس	7.0
13-14	بلز	8.0
14-15	گودام کے چارجز	9.0
15	نرخ برائے کارپوریٹ صارف اور MNCs	10.0
15-16	سرمایہ کاری اور پیشگی ادائیگیاں	11.0
16-20	بین الاقوامی بینکنگ (International Banking)	12.0

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

1.0	ترسیلات زر
1.1	پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ، بینکرز چیک کا اجراء
1.1.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے کیساں -/450 روپے + FED
1.1.2	طلبہ کیلئے، جو تعلیمی اداروں HEC، پورڈ وغیرہ کی فیس / بقایا جات جمع کر رہے ہوں۔ فیس / بقایا جات کا 0.50% یا -/25 روپے + FED فی آلہ یا جو بھی کم ہو
1.1.3	ٹی۔ ٹی۔ ٹی۔ کا اجراء شیڈول بینکوں اور مالیاتی اداروں کیلئے 0.04%
a	ٹی۔ ٹی۔ ٹی۔ کی رقم (یا سوئفٹ چارجز) اصل / کم از کم -/125 روپے + FED
b	ٹی۔ ٹی۔ ٹی۔ کے اجراء پر ٹیلی فون کی رقم کچھ نہیں (بذریعہ ای میل منتقل ہوگی)
1.2	ڈپلکیٹ پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ، بینکرز چیک کا اجراء
1.2.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے -/600 روپے + FED
1.3	پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ، بینکرز چیک کی منسوخی:
1.3.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے -/375 روپے (فقط) + FED
نوٹ	بینکرز چیک کے اجراء کے بعد پے آرڈر اور ڈیمانڈ ڈرافٹ منقطع ہو جائیں گے۔
1.4	برانچوں کے درمیان لین دین (IBT) / الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر (EFT)
1.4.1	رقم کی منتقلی بذریعہ کاؤنٹر اندرون شہر: مفت بیرون شہر: -/400 روپے + FED
1.4.2	نقد لین دین بذریعہ کاؤنٹر اندرون شہر: مفت بیرون شہر: -/450 روپے + FED
نوٹ	این بی پی ہیڈ آفس کے سرکلر لیٹر نمبر: CRBG/OPG/PAATMP/6587 بتاریخ 17-08-2017 کے مطابق آرمی کے تنخواہ دار اکاؤنٹ رکھنے والے ملازمین اور افسران (JCO, Soldier, NCB, NCE, Civilian) دفاعی تخمینہ جات اور افسران کو ادا ہونے والی رقوم پر، رقم جمع کرانے، رقم کی منتقلی، رقم نکلوانے، IBT، DD/PO، بینکرز چیک کے اجراء جیسی کسی ٹرانزیکشن / کاروائی پر کسی قسم کی رقم کی ادائیگی لاگو نہیں ہوگی۔

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

1.5	کال ڈپازٹ رسید کا اجراء	
1.5.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	FED + روپے 175/-
1.6	ڈپلکیٹ کال ڈپازٹ رسید کا اجراء	
1.6.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	FED + روپے 350/-
1.7	کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی:	
1.7.1	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے	FED + روپے 175/-
نوٹ	غیر اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے ڈرافٹ، بے آرڈر اینکنرز چیک، کال ڈپازٹ رسید کے اجراء کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، علاوہ ایسے طلبہ کے جو تعلیمی اداروں، ایچ ای سی اور بورڈ وغیرہ کی فیس/بقایا جات جمع کرانا چاہتے ہوں۔	
2.0	سیف ڈپازٹ لاکرز میں اشیاء کی تحویل	
2.1	سیف ڈپازٹ فیس (پیشگی قابل ادائیگی یا ہر سہ ماہی عرصہ کے آغاز میں وصول کی جائے گی، اور یہ فیس ناقابل واپسی ہے خواہ دوران مدت کسٹمر اس سروس کا استعمال ترک یا منسوخ کر دے)۔	
2.1.1	ڈبوں اور پیک شدہ اشیاء کیلئے	5/- روپے فی 100 کیوبک انچ یا اس کا کوئی حصہ، ساتھ میں کم از کم 400/- روپے + FED فی سہ ماہی
2.1.2	لفافوں کیلئے، (مشمولات نامعلوم)	3/- روپے فی 25 مربع انچ یا اس کا کوئی حصہ، ساتھ میں کم از کم 300/- روپے
2.2	سیف ڈپازٹ لاکرز کی فیس (پیشگی قابل ادائیگی یا سالانہ، ششماہی یا سہ ماہی عرصہ کے آغاز میں وصول کی جائے گی اور یہ فیس ناقابل واپسی ہے خواہ دوران مدت کسٹمر اس سروس کا استعمال ترک یا منسوخ کر دے)۔	
2.2.1	چھوٹا لاکر 0.41 کیوبک فیٹ تک	4,000/- روپے سالانہ + FED
2.2.2	درمیانہ لاکر 0.42 تا 0.80 کیوبک فیٹ تک 0.81 تا 1.35 کیوبک فیٹ تک	6,000/- روپے سالانہ + FED

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

2.2.3	بڑا لاکر کیوبک فیٹ تک 1.36 تا 1.75 کیوبک فیٹ تک 1.76 تا 2.00	FED + روپے سالانہ 8,000/-
2.2.4	سب سے بڑا لاکر کیوبک فیٹ تک 2.01 تا 2.50 کیوبک فیٹ تک 2.51 تا 3.00	FED + روپے سالانہ 12,500/-
نوٹ	صرف حاضر سروس این بی پی اسٹاف کیلئے ایک لاکر پر 50% رعایت ہوگی۔	
2.3	چابی کا ڈپازٹ	
2.3.1	چھوٹی چابی	روپے 4,000/-
2.3.2	درمیانی چابی	روپے 5,000/-
2.3.3	بڑی چابی	روپے 6,000/-
2.3.4	سب سے بڑی چابی	روپے 8,000/-
2.4	لاکروں کے معاوضہ	6,000/- روپے فی لاکر یا اصل اخراجات جو بھی زیادہ ہوں
نوٹ	ڈپازٹ کا اطلاق نیا لاکر جاری کرتے وقت ہوگا۔	
2.5	آئی بی ایس (IPS) اکاؤنٹس (Portfolio سروس چارجز)	
2.5.1	تحویلی اکاؤنٹ کے سروس چارجز	کوئی نہیں
3.0	ٹریڈل زر کی متبادل سہولیات (ADC Products)	
3.1	اے۔ٹی۔ایم کی سہولت	
3.1.1	نقد رقم کا نکھوانا این۔بی۔پی کے اے۔ٹی۔ایم سے ون لنک (1-Link) میسر بینک کے اے۔ٹی۔ایم سے	بلا معاوضہ 23.44 روپے فی ٹرانزیکشن۔
3.1.2	بقایا جات کی معلومات این۔بی۔پی اے۔ٹی۔ایم 1-Link اے۔ٹی۔ایم	بلا معاوضہ 3.13 روپے
3.1.3	یو۔پی۔آئی۔ای۔ایم۔وی۔ڈیبٹ کارڈ	
a	پہلا (اصل) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس کارڈ کی تبدیلی	بلا معاوضہ FED + روپے 1,350/- FED + روپے 675/-

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

بلا معاوضہ FED + روپے 1,350/- FED + روپے 675/-	دوسرا (ماتحت) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس کارڈ کی تبدیلی	b
پے پاک ای۔ ایم۔ وی۔ ڈیبٹ کارڈ		3.1.4
بلا معاوضہ FED + روپے 1,200/- FED + روپے 600/-	پہلا (اصل) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس کارڈ کی تبدیلی	a
بلا معاوضہ FED + روپے 1,200/- FED + روپے 600/-	دوسرا (ماتحت) صارف کارڈ کا اجراء سالانہ فیس کارڈ کی تبدیلی	b
(ا) پیشگی سالانہ فیس کسٹمر سے وصول کی جائے گی، اور یہ چارجز ناقابل واپسی ہیں، خواہ دوران مدت کسٹمر اس سروس کا استعمال ترک یا منسوخ کر دے۔ (ب) این۔ بی۔ پی کے ملازمین کیلئے پی۔ پی۔ آئی / ای۔ ایم۔ وی ڈیبٹ کارڈ کی سالانہ فیس میں 50% کی رعایت ہوگی۔ (ج) سکمنگ کی وجہ سے بلاک ہونے والے کارڈ کے متبادل کی فیس چارج نہیں کی جائے گی۔		نوٹ
ایس۔ ایم۔ ایس کے ذریعے اطلاع (SMS Alert)		3.2
بلا معاوضہ	ایس۔ ایم۔ ایس۔ الرٹ	3.2.1
ڈیجیٹل (موبائل) پبلیکیشن اور انٹرنیٹ بینکنگ		3.3
موبائل پبلیکیشن / انٹرنیٹ بینکنگ		3.3.1
بلا معاوضہ	موبائل بینکنگ / انٹرنیٹ بینکنگ رجسٹریشن	(a)
بلا معاوضہ	NBP کے کسی اور اکاؤنٹ میں ادائیگی (فنڈ ٹرانسفر)	(b)
کچھ نہیں	کسی دوسرے بینک میں ادائیگی (انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر)	(c)
بلا معاوضہ	یوٹیلٹی بلز کی ادائیگی	(d)
بلا معاوضہ	موبائل ٹاپ اپس۔ ایئر ٹائم ٹاپ اپس	(e)
بلا معاوضہ	بیلنس کی معلومات	(f)
شناختی کارڈ پر ادائیگی (سلیب پاکستانی روپے میں)		(g)
44 روپے	1 سے 1,000 تک	
88 روپے	1001 سے 2,500 تک	

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

132 روپے	2,501 سے 4,000 تک	
176 روپے	4,001 سے 6,000 تک	
220 روپے	6,001 سے 8,000 تک	
264 روپے	8,001 سے 10,000 تک	
308 روپے	10,001 سے 13,000 تک	
352 روپے	13,001 سے 16,000 تک	
418 روپے	16,001 سے 20,000 تک	
484 روپے	20,001 سے 25,000 تک	
552 روپے	25,001 سے 30,000 تک	
618 روپے	30,001 سے 40,000 تک	
684 روپے	40,001 سے 50,000 تک	
نوٹ: شناختی کارڈ پر ادائیگی پر لاگو ہونے والے سیلنگٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے چارجز کسٹمر ادا کرے گا۔		
4.0 رقم ڈپازٹ کرانے کے لئے اکاؤنٹس کی اقسام		
4.1 اعتماد ماہانہ بچت اکاؤنٹ (AMBA)		
اگر AMBA اکاؤنٹ ہولڈر صارف کا روزانہ کا اوسط ٹیلیس (ماہانہ اوسط ٹیلیس) گزشتہ مہینے کے برابر یا زیادہ ہو؛ Type-I 5,00,000/- روپے سے Type-II اور Type-III کیلئے 1,000,000/- روپے سے تو موجودہ مہینے میں درج ذیل خدمات کے فائدے بلا معاوضہ فراہم کئے جائیں گے۔ • چیک بک اجراء • پی آر ڈر کا اجراء • ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء اگر AMBA اکاؤنٹ رواں مہینے کے دوران کھولا گیا ہو، اور صارف مندرجہ بالا بلا معاوضہ خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو، ضروری ہے کہ صارف کا موجودہ جاری ٹیلیس برابر یا زیادہ ہو؛ Type-I 5,00,000/- روپے سے Type-II اور Type-III کیلئے 1,000,000/- روپے سے مندرجہ بالا معیار سے مطابقت رکھنے پر چارجز اجراء کے وقت ہی معاف کر دیئے جائیں گے۔		4.1.1 بلا معاوضہ فوائد کی اہلیت کے اصول

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

4.2	اعتماد اکٹم سپورٹ اکاؤنٹ (AISA)	
4.2.1	بلا معاوضہ فوائد کی اہلیت کے اصول	اگر AISA اکاؤنٹ ہولڈر کا روزانہ اوسط بیلنس (ماہانہ اوسط بیلنس) گزشتہ مہینے 1,00,000/- روپے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو موجودہ مہینے میں درج ذیل خدمات کے فائدے بلا معاوضہ فراہم کئے جاتے ہیں۔ • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں اگر AISA اکاؤنٹ رواں مہینے کے دوران کھولا گیا ہو، اور صارف مندرجہ بالا بلا معاوضہ خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو، ضروری ہے کہ صارف کا موجودہ / جاری بیلنس 1,00,000/- روپے کے برابر یا زیادہ ہو۔
4.3	اعتماد سینئر اکاؤنٹ (A Sr.A)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.4	اعتماد بیسک بینکنگ اکاؤنٹ (ABBA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
4.5	اعتماد آسان کرنٹ اکاؤنٹ (AACA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.6	اعتماد آسان سیونگ اکاؤنٹ (AASA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.7	اعتماد فوری ریمیٹنس کرنٹ اکاؤنٹ (AFRCA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.8	اعتماد فوری ریمیٹنس سیونگ اکاؤنٹ (AFRSA)	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • چیک بک کا اجراء • ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں
4.9	اعتماد مرچنٹ اکاؤنٹ (AMA)	
4.9.1	بلا معاوضہ فوائد کی اہلیت کے اصول	ہمیشہ کے فائدے بلا معاوضہ: • آن لائن بینکنگ - (این بی پی کے وسیع نیٹ ورک پر) • ایس ایم ایس الرٹ - (انفرادی اصول پر پائینشرپ کیلئے) پہلے مہینے کے بلا معاوضہ فوائد (بغیر بیلنس اہلیت کے) • چیک بک کا اجراء • پے آرڈر کا اجراء • ڈیپانڈ ڈرافٹ کا اجراء • اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ • ای ایم وی ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس کوئی نہیں

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

دوسرے مہینے سے بلا معاوضہ فوائد (بیلنس کی اہلیت کے ساتھ) اگر AMA اکاؤنٹ ہولڈر صارف کا اوسط بیلنس (ماہانہ اوسط بیلنس) گزشتہ مہینے کے برابر یا 50,000/- روپے سے بڑھ کر ہو تو جاری مہینے کے دوران درج ذیل خدمات کے فائدے بلا معاوضہ فراہم کئے جائیں گے۔ • چیک بک کا اجراء • پے آرڈر کا اجراء • ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء • اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ • ایم وی ڈی بیٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس مندرجہ بالا معیار سے مطابقت رکھنے پر چارجز اجراء کے وقت ہی معاف کر دیئے جائیں گے۔		
اعتماد امیرہ اکاؤنٹ (AAA)		4.10
بلا معاوضہ فائدے (بیلنس کی حد کے بغیر) • ایس ایم ایس الرٹس • ڈیجیٹل بینکنگ رجسٹریشن بلا معاوضہ فائدے (بیلنس کی حد کے ساتھ)* اگر اکاؤنٹ ہولڈر کا روزانہ اوسط بیلنس (ماہانہ اوسط بیلنس) کی بنیاد پر گزشتہ ماہ کا بیلنس 50,000/- روپے یا اس سے زائد ہو تو درج ذیل خدمات رواں مہینے میں بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی • چیک بک • ڈیٹ کارڈ • اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ • چھوٹے لاکرز پر (دستیابی سے مشروط) 50% رعایت مزید خاص رعایات: (ریگولر آٹو/ہاؤسنگ فنانس کے حق میں اجازت سے مشروط) • پروسیسنگ فیس میں 50% رعایت • قبل از مدت ادائیگی/اختتام کے چارجز میں 50% رعایت • آٹو اور ہاؤسنگ فنانس کیلئے KIBOR+2% کے خاص ریٹ * اگر کسٹمر دوران ماہ اکاؤنٹ کھولنے پر مندرجہ بالا بلا معاوضہ فائدے حاصل کرنا چاہے تو اس کا اکاؤنٹ بیلنس 50,000/- روپے یا اس سے زائد ہونا لازمی ہے۔	بلا معاوضہ فوائد کی اہلیت کے اصول	4.10.1

بینک چارجز کا شیڈول جولائی تا دسمبر 2023ء

این۔بی۔ پی اعتماد کے شیڈول آف چارجز (SOCs) کے مطابق (لاگو شدہ) تمام سرکاری ٹیکس اور محصول اکاؤنٹ ہولڈر سے وصول جائیں گے۔ این۔بی۔ پی اعتماد، شیڈول آف چارجز (SOCs) میں درج شدہ چارجز / فیس / رعایت / طریقہ / اصولوں کا وقتاً فوقتاً از سر نو جائزہ لے کر تبدیل یا اپ ڈیٹ کرے گا۔	نوٹ
5.0 صارفین کو سرمائے کی فراہمی کی سہولیات	
5.1 اعتماد ہمسفر آٹو فنانس (AHAF)	
5.1.1 پراسسنگ فیس (ناقابل واپسی) FED+ 3,000/- روپے (ہر مرتبہ LOGIN کرنے پر)	
5.1.2 کاغذی کارروائی کے چارجز حقیقی اخراجات	
5.1.3 بیرونی پتے کی تصدیق حقیقی اخراجات	
5.1.4 آمدنی کا تخمینہ حقیقی اخراجات	
5.1.5 نکال چارجز ٹریکیر 2.5% سالانہ بغیر ٹریکیر 2% سالانہ (تبدیلی بینکی نوٹیفیکیشن سے مشروط)	
5.1.6 رجسٹریشن چارجز حقیقی اخراجات	
5.1.7 تخمینہ چارجز (استعمال شدہ / امپورٹڈ) حقیقی اخراجات	
5.1.8 قبل از مدت ادائیگی کی صورت میں بقایا مشارکہ یونٹ پر 5%	
5.1.9 اضافی / جزوی ادائیگی کا اختیار اضافی / جزوی مشارکہ یونٹ پر 5%	
5.1.10 بینک تحویل (قبضہ) میں لینے کے چارجز حقیقی اخراجات	
5.1.11 چیک مستر دہونے کے چارجز 250/- روپے + FED فی چیک	
5.1.12 چیریٹی غیر ادا شدہ کرائے کی رقم پر 20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق ہوگی	
5.1.13 محفوظ کارروائی کی رجسٹری چارجز (STR) حقیقی اخراجات	
5.1.14 مشارکہ یونٹس کی خریداری میں تاخیر کی صورت میں اضافی قیمت 20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق لاگو ہوگی	
5.1.15 چیریٹی - (ڈیلوری سے قبل بینک کی منسوخی کی صورت میں) 10,000/- روپے	

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

5.2	اعتماد ہاؤسنگ فنڈس (AHF)	
5.2.1	پراسیڈنگ فیس (ناقابل واپسی)	نیشنل بینک، سرکاری، مسلح افواج کے ملازمین کیلئے -/4,000 روپے FED+ تنخواہ دار، ایس ای بی، ایس ای پی دیگر آمدنی والوں کیلئے -/8,000 روپے FED+
5.2.2	پراسیڈنگ فیس (ناقابل واپسی) کم قیمت مکان کیلئے سرمایہ - عمومی درجہ	نیشنل بینک، سرکاری، مسلح افواج کے ملازمین کیلئے -/1,500 روپے FED+ تنخواہ دار، ایس ای بی، ایس ای پی دیگر آمدنی والوں کیلئے -/3,000 روپے FED+
5.2.3	پراسیڈنگ فیس (ناقابل واپسی) کم قیمت مکان کیلئے سرمایہ - خصوصی درجہ	-/1,500 روپے FED+
5.2.4	پراسیڈنگ فیس (ناقابل واپسی) نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام	-/4,000 روپے FED+ (پروجیکٹ کے مطابق فرق ہو سکتا ہے)
5.2.5	کاغذی کاروائی کے چارجز	حقیقی اخراجات
5.2.6	بیرونی پتے کی تصدیق	حقیقی اخراجات
5.2.7	آمدنی کا تخمینہ	حقیقی اخراجات
5.2.8	مکمل چارجز	حقیقی اخراجات
5.2.9	جائداد کی مالیت جانچنے کے چارجز	حقیقی اخراجات
5.2.10	قبل از مدت ادائیگی کی صورت میں (علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اور کم قیمت مکان سرمایہ) - خصوصی درجہ	بقایا پونٹس پر 5 سال کے اندر 2% کے حساب سے اطلاق - 5 سال سے زائد پر کوئی اضافی قیمت لاگو نہیں ہوگی۔
5.2.11	اضافی / جزوی ادائیگی کا اختیار (علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اور کم قیمت مکان سرمایہ) - خصوصی درجہ	اضافی / جزوی مشارکہ پونٹس پر 5 سال کے اندر 2% کے حساب سے اطلاق - 5 سال سے زائد پر کوئی اضافی قیمت لاگو نہیں ہوگی۔
5.2.12	چیک مستر دہونے کے چارجز	-/250 روپے FED+ فی چیک
5.2.13	پراپرٹی ٹیکسز	حقیقی اخراجات
5.2.14	سرچ سرٹیفکیٹ	حقیقی اخراجات
5.2.15	چارج کاغذات کی تیاری	حقیقی اخراجات
5.2.16	مورٹگج ڈیڈ (ڈرافٹنگ + رجسٹریشن)	حقیقی اخراجات
5.2.17	رجسٹریشن ڈیڈ (ڈرافٹنگ + رجسٹریشن)	حقیقی اخراجات
5.2.18	سیل ڈیڈ (ڈرافٹنگ + رجسٹریشن)	حقیقی اخراجات
5.2.19	قانونی مشیر	حقیقی اخراجات

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

5.2.20	چیریٹی	غیر ادا شدہ کرائے کی رقم پر 20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق ہوگی
5.2.21	مشارکہ پونٹس کی خریداری میں تاخیر کی صورت میں اضافی قیمت	20% سالانہ کے حساب سے جو کہ معاہدے کے مطابق لاگو ہوگی
6.0 متفرق چارجز / اخراجات		
6.1	اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ	50/- روپے + کوریئر چارجز (اگر ہوں تو)
6.2	ڈپلیکیٹ یا اضافی اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ	50/- روپے فی اسٹیٹمنٹ
6.3	اسٹیٹ بینک یا این۔بی۔ پی چیکس کا اجراء	400/- روپے + FED فی چیک
6.4	چیک سے ادائیگی رکوانا مقامی کرنسی (LCY) غیر ملکی کرنسی (FCY)	LCY اکاؤنٹ - 480/- روپے + FED فی ہدایت FCY اکاؤنٹ - 7/- امریکی ڈالر + FED فی ہدایت
اضافی	ادائیگی رکوانے کے چارجز ایک مرتبہ لاگو ہونگے چاہے ایک یا ایک سے زائد چیکس ہوں۔	
6.5	چیکس کلیئرنگ چارجز، جہاں کلیئرنگ ہاؤس سہولت نہ ہو	کوئی نہیں
6.6	دیگر بینک / صارف کیلئے اسٹیٹ کی تصدیق	300/- روپے (فقط)
6.7	غیر ملکی سپلائر / خریدار پر کریڈٹ انفارمیشن بشمول کریڈٹ رپورٹ	غیر ملکی نمائندے یا ادارے کے اصل چارجز + سوئفٹ چارجز
6.8	آڈیٹرز کو بینک بیلنس کی کنفرمیشن	500/- روپے + FED
6.9	قرض دینے والے غیر ملکی اداروں سے ذاتی غیر ملکی کرنسی کی سہولت لینے والے پاکستان میں موجود صارفین کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے معاہدے کی رجسٹریشن	برستے کے چارجز - 5000/- روپے (فقط)
6.10	بیلنس کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ (آڈیٹرز کے علاوہ صارف کی ضرورت پر) مقامی کرنسی (LCY) غیر ملکی کرنسی (FCY)	فی سرٹیفکیٹ - 240/- روپے + FED 2/- ڈالر یا دیگر کرنسی میں اسکے برابر

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2023ء

6.11	گمشدہ چیک بک کے بدلے میں نئی چیک بک کا اجراء (صرف مقامی کرنسی کے اکاؤنٹ کیلئے) یہ چارجز ”ادائیگی رکوانے کے چارجز“ کے علاوہ ہیں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔	فی درخواست -/180 روپے + ایکسائز ڈیوٹی، اگر کوئی ہو تو -/2 امریکی ڈالر (FCY اکاؤنٹ میں)
6.12	اکاؤنٹ بند / ختم کرنے کا معاوضہ	کوئی نہیں
6.13	چیک بک کا اجراء	-/16 روپے فی چیک (+) ایکسائز ڈیوٹی اگر کوئی ہو تو (موجودہ مشارکہ صارف کیلئے بلا معاوضہ)
6.13.1	خصوصی چیک بک کا اجراء A4 سائز میں	-/32 روپے فی چیک (+) ایکسائز ڈیوٹی اگر کوئی ہو تو
6.14	چیک بک ارسال کرنے کے اخراجات	حقیقی اخراجات
6.15	آجر سے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی خدمات کا معاوضہ	انتظامات کے مطابق
نوٹ	اکثر تجارتی ادارے (سرکاری، نیم سرکاری اور خود مختار اداروں کے علاوہ) اپنے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی ہماری برانچوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ جبکہ ایسے ادارے، اپنا کاروبار ہمارے بینک کے ذریعے نہیں چلاتے، نہ ہی اطمینان بخش سرمایہ بینک میں برقرار رکھتے ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے بینک پر پڑنے والے کام کے بوجھ سے انصاف ہو سکے۔ بینک ایسے اداروں سے تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے پڑنے والے اضافی کام کے بوجھ کا معاوضہ طلب کرنے میں حق بجانب ہے۔ ہم متناظر قوائد کے تحت انفرادی کھاتوں سے وصولی نہیں کر سکتے۔ تاہم، ہم ایسے آجر سے معاوضہ وصول کر سکتے ہیں، جو اپنا کاروبار ہمارے بینک کے ذریعے نہیں چلاتے ہوں، اور نہ ہی اطمینان بخش سرمایہ بینک میں برقرار رکھتے ہوں۔ ہم اُن سے اُن کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی خدمات کا معاوضہ لازمی وصول کرتے ہیں۔	
6.16	چیک کیش کرنے کے اختیارات	جاری کرنے والی برانچ کوئی معاوضہ وصول نہیں کرے گی لیکن چیکس کی خریداری پر چارجز ہو سکتے ہیں 0.80% کم از کم -/25 روپے + کوریئر کے چارجز
6.17	پریزم ٹرانزیکشن چارجز (PRISM) تمام بینکوں کے مابین سرمائے کی منتقلی (IFTs) بشمول صارف کی منتقلی (RTGs)	-/200 روپے ترسیل کرنے والے بینک کی جانب سے
6.18	خصوصی ایک دن میں کلیئرنگ بذریعہ (NIFT) 5 لاکھ سے زائد مالیت کے چیک کیلئے	-/425 روپے + FED فی چیک
نوٹ	ایک ہی (NIFT) آفس کے دائرہ کار میں آنے والے لشہروں (مثلاً اسلام آباد اور راولپنڈی) میں کلیئرنگ کے چیکس پر کلیکشن چارجز وصول نہیں کیئے جائیں گے۔ اور انہیں مقامی کلیئرنگ کی طرح برتا جائے گا۔	

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

6.19	یوٹیلیٹی بلز کی وصولی کی خدمات کے چارجز ٹیکس / بجلی کی خدمات	10/- روپے فی بل - یوٹیلیٹی سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے معاوضے کے مطابق
6.20	ویزا، انکم ٹیکس وغیرہ کیلئے بینک سرٹیفیکیٹ	350/- روپے + FED (فقط) فی سرٹیفیکیٹ
6.21	RTGS چارجز	’مفت‘
6.22	اسلحہ کے لائسنس فیس (حکومت سندھ کی جانب سے جاری کیئے گئے)	26/- روپے فی چالان + FED
6.23	اسلحہ کے لائسنس فیس (کے۔ پی۔ کے حکومت کی جانب سے جاری کیئے گئے)	25/- روپے فی چالان + FED
6.24	پاسپورٹ فیس	25/- روپے فی چالان + FED
6.25	ڈرائیونگ لائسنس فیس (برائے حکومت سندھ)	فیس کا 2.50%
6.26	KPK پبلک سروس کمیشن کے امتحانی فیس کی وصولی - بغیر برانچ کے بینکنگ چینل کے ذریعے	40/- روپے بشمول FED
6.27	معذور افراد (PWDs) کیلئے گھر پر بینکنگ کی سہولت ***	
6.27.1	برانچوں کے ذریعے معذور افراد (PWDs) کیلئے سہولیات	
(a)	بائیومیٹرک تصدیق	مفت
(b)	چیک بک کی ڈیلیوری گھر پر	ڈیلیوری چارجز مفت
(c)	ڈیبٹ کارڈ کی ڈیلیوری گھر پر	ڈیلیوری چارجز مفت
نوٹ	*** برمطابق SBP BC&CPD کے 2021 کے سرکرنمبر 5	
7.0	مستقل ہدایات کی فیس	
7.1	مستقل ہدایات (اگر کوئی ہو) کی فیس، رقم کی ترسیل کے چارجز کے ساتھ وصول کی جائے گی۔	200/- روپے فی ٹرانزیکشن
8.0	بلز	
8.1	دستاویزی بلز	0.40% کم سے کم - 600/- روپے + FED کورئیر / ڈاک خرچ اس کے علاوہ
8.2	کلین (بشمول چیکس / ڈیویڈنڈ وارنٹس / بینک ڈرافٹ وغیرہ)	0.25% کم سے کم - 150/- روپے + FED زیادہ سے زیادہ - 10,000/- روپے کورئیر / ڈاک خرچ اس کے علاوہ
نوٹ	سرکاری محکموں کی جانب سے سرکاری کھاتوں میں منتقلی کیلئے موصول ہونے والے بیرون شہر چیکس پر جو ایسی جگہوں سے لکھوائے کیلئے ہوں جہاں بینک کا دفتر موجود ہے، خدمات کا کوئی معاوضہ نہیں ہونا چاہیئے۔ اس رعایت کا اطلاق بیرون شہر کے ایسے چیکس پر نہیں ہوتا جو عوام الناس کے جانب سے سرکاری واجبات کی ادائیگی کیلئے موصول ہوں، اُن پر بینک کے مروجہ چارجز لاگو ہونے چاہئیں۔	

بینک چارجز کا شیڈول جولائی تا دسمبر 2023ء

نوٹ	زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 (ترمیم شدہ 1997) کے مطابق بینک اپنی خدمات، جو آرڈیننس کے تحت کھاتوں پر لازم زکوٰۃ اور عشر کا تعین و کنٹری یا ادائیگی سے متصل ہوں بلا معاوضہ فراہم کرے گا۔ علاوہ ازیں ایسے چیکس پر جو مرکزی زکوٰۃ فنڈ سے مستفید ہونے والے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوں، کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔
8.3	نیشنل بینک کے اپنے چیکس، ڈیمانڈ ڈرافٹس اور پے آرڈرز کیلئے 0.15% کم از کم -100 روپے + FED اسکے علاوہ کوریئر / ڈاک خرچ زیادہ سے زیادہ -5,000 روپے اور FED
a	ڈاک / کوریئر کے چارجز، ہر آلے (کلین ہو یا دستاویزی) کی کلکیشن / تحویل پر وصول کیئے جائیں گے۔ جبکہ ایسی صورت میں جہاں فریق ایک ہی برانچ میں ایک سے زائد چیک یا آلہ ایک خاص تاریخ میں حصول / جمع کرنے کیلئے دیتا ہے، ڈاک / کوریئر چارجز (صرف ایک مرتبہ) وصول کیئے جائیں گے۔
b	کم مالیت کے چیکس کی کلکیشن بذریعہ عام ڈاک (کوریئر کے علاوہ) متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر فریق نے تحریری طور پر خصوصی درخواست کی ہو کہ روائی میں تاخیر کی ذمہ داری خود اُسکی ہوگی۔
c	دیگر چیکس / ڈیمانڈ آلہ (ڈیوینڈنڈ وارنٹس کی طرح) 0.60% کم سے کم -20 روپے + FED
d	کلکشن کرنے والے بینک کے چارجز اضافی ہوئے (اگر کلکٹنگ بینک، بینک کے علاوہ ہو)
e	ٹیلی فون کے چارجز اضافی ہوئے، اگر کاغذ کے بارے میں فون پر معلومات مانگی گئی ہوں۔
f	اگر کاغذ بغیر ادائیگی کے واپس آجائے۔
(i)	دستاویزی حصول / کلکیشن کی واپسی کے چارجز -370 روپے + FED - کوریئر چارجز بمطابق مندرجہ بالا (دستاویزی)
(ii)	کلین حصول / کلکیشن کی واپسی کے چارجز -160 روپے + FED - کوریئر چارجز بمطابق مندرجہ بالا (کلین)
نوٹ	کریڈٹ کمیٹی کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسے صارفین کے لیے تمام تجاویز کی منظوری دے جن کے لین دین کا مجموعی حجم 500 ملین روپے سے زائد نظر آتا ہو (Non Funded اور Funded، دونوں) اور تمام MNC's تربیلی چارجز کی صورت میں۔ کاروبار کے حصول کیلئے ملکی / سمندر پار بلز پر کمیشن، صارف سے مذاکرات کے مطابق چارج کیا جائے گا۔
9.0	گودام کے چارجز
9.1	گودام کا کرایہ حقیقی اخراجات
9.1.1	مقدم کی صورت میں (منظم عہدہ) حقیقی اخراجات
9.2	گودام کے ملازمین کی تنخواہ (کیپر / چوکیدار) حقیقی اخراجات
9.3	گودام کے معائنے کے چارجز حقیقی اخراجات (برتاؤ کے مطابق)
a	گودام کا معائنہ بغیر کسی شہری حدود کے اگر گودام کے معائنے کے چارجز -500 روپے بینک ہوں تو اسٹاف کو ادائیگی کیلئے فریق کے اکاؤنٹ سے منہا کر لیے جائیں۔

بینک چارجز کا شیڈول

جولائی تا دسمبر 2023ء

اگر معاملے کے چارجز 500 روپے + FED سے زائد ہوں تو فریق کے اکاؤنٹ سے منہا کر کے ”بینک اکم“ اکاؤنٹ، میں جمع کر لئے جائیں اور مجاز اتھارٹی کی منظوری سے ٹی اے ڈی اے چارجز کی ادائیگی	
3,000/- روپے تک فی صارف	b گودام کا معائنہ بذریعہ پی بی اے کے منظور شدہ بیرونی سرویزر/ایویلوایٹر
اگر گودام کا معائنہ ریجنل/ہیڈ آفس کے آڈیٹر/بیرونی آڈیٹر کریں یا/اور ریجنل ہیڈ کوارٹر کی جانب سے وقتاً فوقتاً چانک چیکنگ کی جائے، تو ایسی صورت میں صارفین سے کوئی چارجز وصول نہیں کیئے جائیں گے، کیونکہ یہ بینک کے عمومی فرائض کا حصہ ہے۔	نوٹ
حقیقی اخراجات	9.4 ڈیوری چارجز/آمدورفت کے چارجز اگر گودام کا رکھوالا/کیپر تعینات نہیں ہے، تب گودام پر آمدورفت کے چارجز وصول کیئے جائیں گے۔
حقیقی اخراجات حقیقی اخراجات	9.5 دیگر ناگہانی اخراجات ہکا فل حصہ داری قانونی چارجز
600/- روپے (فقط) فی صارف (وہ برائے وصول کرے جہاں سرمایہ کاری ہوئی)	9.6 سرکاری ضمانتوں پر حقوق/دعووں کی نشاندہی کے بینڈ لنگ چارجز
550/- روپے (فقط) فی صارف	9.7 این بی پی کی دوسرے بینکوں کیلئے جاری کی گئی ضمانتوں پر حقوق/دعووں کی نشاندہی
ایسے چارجز میں، متفرق چارجز، جیسے گودام کا کرایہ، گودام اسٹاف کی تنخواہ، گودام معائنہ کے چارجز وصول نہیں ہو رہے، سرمایہ کار صارف سے وصول ہونے والی رقم، گودام کے کرائے، اسٹاف کی تنخواہ وغیرہ سے زائد نہیں ہونگے۔ دیگر الفاظ میں متفرق چارجز ”صل“ کے مطابق عائد ہونے چاہئیں نہ کہ بینک کے لینے منافع کا ذریعہ۔ جبکہ متعلقہ اسٹاف کو آمدورفت کے اصل چارجز کی ادائیگی مجاز اتھارٹی کی باقاعدہ منظوری کے بعد اخراجات اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔	نوٹ
10.0 نرخ برائے کارپوریٹ صارف اور MNCs	
صارف سے طے شدہ معاملے کے مطابق	10.1 سرمائے کے لین دین کے مجموعی حجم 500 ملین روپے کے ساتھ (سرمایہ ہو اور نہ ہو، دونوں) اور تمام MNCs ترسیل زر (سرمائے کی منتقلی) کے چارجز
11.0 سرمایہ کاری اور پیشگی ادائیگیاں	
حقیقی اخراجات	11.1 قانونی دستاویزات کی فیس
11.2 ڈائریکٹرز کی تحقیق، لاگت کی تحقیق، مقامی ساکھ کی آگاہی/رپورٹ	
اصل، کم از کم -400 روپے + FED	(a) آزاد حصص کی تصدیق/آزاد ساکھ کی رپورٹ/اثاثوں کا تخمینہ

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

معاملہ در معاملہ کی بنیادوں پر لاگت وصول کر لی جائے گی، برطانیہ ہدایتی سرکل نمبر 111/2003 بتاریخ 13/12/2003 ہدایتی سرکل نمبر 54/2011 بتاریخ 13/06/2011 میں درج ہدایات یا متعلقہ گروپ کی نظر ثانی پر	سرحد پار کلائنٹ کی حیثیت کی رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ منجانب ICIL، Bradstreet، Dub وغیرہ۔	(b)
FED+ 150/- روپے فقط FED+ 200/- روپے فقط	ECIB چارجز فرواد ادا کیلئے دیگر	(c)
FED+ 10,000/- روپے (فقط)	(متفرق) چارجز برائے اجراء NOC صارف کی درخواست پر، کہ اپنے قسڈ اثاثوں پر اضافی pari-passu چارج / دوسرا چارج / تخمینہ وجود میں لائے اور دیگر بینکوں / مالیاتی اداروں سے منصوبے کا مزید سرمایہ حاصل کر سکے۔	11.3
ایسے چارجز اُن پر لاگو نہیں کئے جائیں گے جو: - صارفین، 100 ملین روپے سے زیادہ کی کل سہولت کے حامل ہوں۔ - صارفین، جنہیں مشترکہ سرمایہ کاری کے تحت سہولت لینے کی اجازت ہو۔		
3,000/- روپے	چارج / حوالگی کی ریڈیشن کی فیس، فریق / صارف سے وصول کی جائے گی، جب بینک افسران کو رہن شدہ کی ریڈیشن کیلئے رجسٹر اے کے سامنے نکایا جائے۔	11.4
1,000/- روپے	SECP سے چارج / حوالگی کی خلاصی	(a)
اصل بمع 1,000/- روپے فی معاملہ	SECP میں چارج / حوالگی کی رجسٹریشن	(b)
اصل بمع 1,000/- روپے فی معاملہ	رجسٹر آفس سے چارج / حوالگی کی رجسٹریشن	(c)
500/- روپے فی چکر / ٹرپ	دیگر اداروں سے جاری ضمانتوں پر دعووں کا بندوبست کرنے کیلئے	(d)
12.0 بین الاقوامی بینکنگ (International Banking)		
12.1 برآمدات (Exports) (مقامی امریکی ڈالر والے آلات / چیکس کا جمع کرنا)		
FED+ 200/- روپے	چیکس / آلات جو کراچی کی برانچوں سے وصول ہوں	12.1.1
FED+ 300/- روپے	چیکس / آلات جو کراچی سے باہر کی برانچوں سے وصول ہوں	12.1.2
چیکس / آلات جو بغیر ادائیگی کے واپس آجائیں		12.1.3
FED+ 400/- روپے	کراچی کی برانچوں سے وصول ہونے والے	(a)

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

(b)	کراچی سے باہر کی برانچوں سے وصول ہونے والے	FED+/- 500 روپے
12.2	بیرونی ترسیلات (Remittances-Outward)	
12.2.1	بیرون ملک ترسیل بذریعہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ خدمات کے چارجز	1/- امریکی ڈالر + FED فی 1000/- امریکی ڈالر + FED یا کوئی حصہ، کم از کم -/5 روپے + FED زیادہ سے زیادہ -/25 امریکی ڈالر بمع -/125 روپے سوئفٹ چارجز
12.2.2	غیر ملکی کرنسی کی یادداشتوں سے دستبرداری کے بدلے ترسیل زریعہ FCY اکاؤنٹ میں نقد رقم کا ڈپازٹ، اس طرح کے ڈپازٹ کی تاریخ سے 10 دن کے اندر	خدمات کے چارجز 1% کے حساب سے۔ 12.2.2 کے تحت بتائے گئے چارجز کے ہمراہ وصول کئے جائیں گے۔ اگر زریعہ -/5,000 امریکی ڈالر یا اس کے برابر دیگر غیر ملکی کرنسی سے بڑھ کر یا برابر ہو۔
نوٹ	1% کے حساب سے خدمات کا معاوضہ / چارجز وصول کئے جائیں گے، جب FCY اکاؤنٹ میں جمع کی گئی رقم جمع کرانے کی تاریخ کے 10 دن کے اندر پاکستان روپے (LCY) میں تبدیل یا پیش کرائی جائے۔	
12.2.3	بیرونی یا مقامی بینکوں / برانچوں اور وہاں جہاں غیر ملکی کرنسی میں ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہو، سے موصول ہونے والی (FCY) اکاؤنٹ سے واپس (داخلی / اندرونی) ٹرانزیکشن	3/- امریکی ڈالر + FED فی 1,000/- امریکی ڈالر + FED یا اس کا حصہ -/3 امریکی ڈالر + FED زیادہ سے زیادہ -/6 امریکی ڈالر + FED
12.2.4	مقامی / اندرون ملک، بینک کی برانچوں سے موصول ہونے والے غیر ملکی کرنسی کے حامل داخلی چیکس جو FCY اکاؤنٹ سے، بعد از تبدیلی، (محاز ڈیلرز کے یکساں خریداری T.T. ریٹس پر) پاکستانی روپے (LCY) میں ادائیگی کیلئے ہوں	خدمات کا معاوضہ 15 پیسے فی -/100 روپے کم از کم -/200 روپے
12.2.5	بیرون ملک رقم کی ترسیل، غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کے وسیلے کے علاوہ	
(a)	طلبہ (تعلیمی مقاصد کیلئے)	-/200 روپے + FED بمع سوئفٹ چارجز
(b)	طلبہ کے علاوہ	-/50 روپے فی -/1,000 امریکی ڈالر + FED کم از کم -/200 روپے + FED اور زیادہ سے زیادہ -/500 روپے + FED بمع سوئفٹ چارجز برائے ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا عام ڈاک کے چارجز جیسا بتایا گیا ہو۔

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

(c)	خدمات کا معاوضہ برائے اجراء:	
(i)	غیر ملکی ڈیماڈ ڈرافٹ (FDDs)	@ پیسے FED +10% یا 1/- روپیہ فی 1,000/- روپے FED+
(ii)	غیر ملکی ٹیلی گرافک ٹرانسفر (FTT)	@ پیسے FED +10% یا 1/- روپیہ فی 1,000/- روپے FED+
(d)	غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کیلئے FDD/FTT	300/- روپے فی آسٹم + FED جمع سوئفٹ / ڈاک خرچ
(e)	FDD کی نقل (ڈپلیکیٹ) کا اجراء	500/- روپے FED + جمع عمومی سوئفٹ / ڈاک خرچ
(f)	غیر ملکی بلز جو وصولی کے لئے بھیجے گئے ہوں اور بغیر ادائیگی کے واپس ہو جائیں۔	350/- روپے (فقط) FED + جمع سوئفٹ اور متعلقہ بینک کے چارجز (اگر ہوں)
(g)	غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں مستقل ہدایت کے چارجز	6/- امریکی ڈالر FED + ہدایت 250/- روپے فی چیک FED +
(h)	بغیر ادائیگی واپس ہونے والے چیک کیلئے معاوضہ؛ جب غلطی صارف کی ہو جسکی جانب سے چیک وصولی کیلئے دوسرے بینک بھیجا گیا ہو، جہاں وہ بینک اس معاوضے کا اطلاق کرے۔ کاؤنٹر سے بیئر چیک کی واپسی کی صورت میں ایسے چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔	
(i)	پاکستانی کرنسی (LCY) اکاؤنٹ	250/- روپے فی چیک FED +
(ii)	غیر ملکی کرنسی (FCY) اکاؤنٹ	5/- امریکی ڈالر فی چیک FED +
نوٹ	بینک سے NOC / اجازت نامے کا اجراء، صارف سے درج بالا چارجز کی وصولی سے مشروط ہے	
12.3	داخلی ترسیلات (Remittances-Inward)	
12.3.1	اندرون خانہ ترسیل	کوئی چارجز نہیں (صرف چارجز)
12.3.2	دیگر ترسیلات	
(i)	اگر کاروائی ادا کنندہ کے بینک کی کسی اکاؤنٹ میں جمع کئے جائیں	کچھ نہیں
(ii)	دیگر صورت میں	10/- روپے یکساں چارجز
12.3.3	داخلی غیر ملکی ڈرافٹس / غیر ملکی MTs کی ادائیگی پر خدمات کے چارجز، جہاں ادائیگی کے دستاویز ہمارے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کو موصول ہونے کے بعد، استفادہ کرنے والے کو ادائیگی کی گئی یہ چارجز جب وصول کرنے ہو گئے، جب T.T. خریداری ریٹ کا اطلاق ہو۔	15 پیسے فی 100/- روپے FED + کم سے کم 200/- روپے FED +
12.3.4	غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرنے کیلئے کرنسی نوٹوں کی تحویل / ترسیل کی خدمات / اینڈنگ کا معاوضہ	

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

(i)	اگر جمع کرانے کے 10 دن کے اندر کوئی ترسیل نہ ہوئی ہو	کچھ نہیں
(ii)	بصورت دیگر، ترسیل کے چارجز	فہرست میں 12.3.2 کے مطابق
12.3.5	غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کو جمع کرنا	
(i)	1,000/- امریکی ڈالر تک	5/- امریکی ڈالر + FED
(ii)	1,000/- امریکی ڈالر سے زیادہ	15/- امریکی ڈالر + FED
12.4	متفرق (ڈاک / فیکس / کوریئر / سوئفٹ)	
12.4.1	ڈاک خرچ (عام)	
(a)	مقامی	30/- روپے
(b)	اندرون ملک	50/- روپے
12.4.2	ڈاک خرچ (رجسٹرڈ)	
(a)	مقامی	35/- روپے
(b)	اندرون ملک	60/- روپے
(c)	غیر ملکی ڈاک خرچ	اصل، کم سے کم 125/- روپے یکساں
12.4.3	فیکس / ٹیلی فون	100/- روپے (فقط)
12.4.4	سوئفٹ غیر ملکی:	
(a)	مکمل سوئفٹ / مکمل پیغام	1,500/- روپے برائے مکمل پیغام
(b)	ٹیلی گرافک ٹرانسفر اور متفرق پیغامات	1,000/- روپے برائے مختصر پیغام 1,200/- روپے برائے مکمل پیغام 1,000/- روپے برائے مختصر پیغام
12.4.5	کوریئر چارجز:	
(a)	مقامی	100/- روپے
(b)	اندرون ملک	400/- روپے
(c)	بیرون ملک	اصل، کم سے کم 3,500/- روپے
12.4.6	ایک سالہ کارگزار سی سند / سرٹیفکیٹ کا اجراء	500/- روپے (فقط) فی سرٹیفکیٹ
12.4.7	صارف کی درخواست پر کاروباری کارکردگی سند / سرٹیفکیٹ کا اجراء	1,000/- روپے (فقط) فی سرٹیفکیٹ
12.4.8	دیگر بینکوں سے بغیر چھانٹی، مشین توثیق شدہ آئی ہوئی نقدی / کیش / کرنسی نوٹوں کو جانچنے اور پیک کرنے کا عمل اسٹیٹ بینک کے کرنسی نوٹ انتظام / برتنے کی حکمت عملی کے مطابق (صرف 500، 1000 اور 5000 روپے والے کرنسی نوٹوں کیلئے)	350/- روپے فی ہنڈل

بینک چارجز کا شیڈول
جولائی تا دسمبر 2023ء

اعتماد اسلامک بینکنگ (AIBG) گروپ کے آپریشن ڈویژن کے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ برنس درخواستوں پر انتظامات کریں، بشمول NIFT کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات سے تعلق رکھنے والے مالیت کے، علاوہ ازیں گروپ کو اختیار ہے کہ وہ ایسے چارجز میں کسی قسم کی تبدیلی سے بذریعہ سرکلر آگاہ کریں، جو 1-Link وغیرہ کے چارجز شیڈول سے وابستہ ہوں، اگر 1-Link نے اپنے چارجز شیڈول میں تبدیلی کی ہو۔	نوٹ
قانون اور ضابطوں کے مطابق کوئی بھی ترمیم بشمول NIFT / 1-Link چارجز از خود مؤثر ہو جائے گی۔	